



سٹیٹلز ویسٹ کوریڈور پر برامپٹن ٹرانزٹ سروس 16 مارچ سے دوبارہ شروع ہو رہی ہے

برامپٹن، آن (15 مارچ 2021) – برامپٹن ٹرانزٹ سروس بروز منگل، 16 مارچ سے سروس کے آغاز سے سٹیٹلز ویسٹ کوریڈور پر واپس آ جائے گی۔

سٹیٹلز ویسٹ کوریڈور پر عارضی طور پر سروس معطل کرنا ایک انتظامی فیصلہ تھا، جو پبل پبلک ہیلتھ کی فعال تفتیش کے دوران انتہائی احتیاط کی بناء پر برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے لیا گیا تھا۔ نظر ثانی کرنے میں پبل پبلک ہیلتھ کے ساتھ شراکت داری کے ساتھ کام کرتے ہوئے، یہ سروس واپس آ رہی ہے اور آپریٹرز، عوام اور ٹرانزٹ کے صارفین کے لیے کمیونٹی میں پھیلاؤ کے عام خطرے کے علاوہ کوئی اضافی خطرہ نہیں ہے۔

درج ذیل روٹ عمومی سروس پر واپس چلے جائیں گے:

- 11 سٹیٹلز
- 51 بیئر فورڈ
- 511 زوم سٹیٹلز

مزید سروس اپ ڈیٹس کے لیے، براہ کرم www.bramptontransit.com، برامپٹن ٹرانزٹ کا ٹویٹر [ٹویٹر](https://twitter.com/BramptonTransit) ملاحظہ کریں یا 905.874.2999 پر کال کریں۔

پبل پبلک ہیلتھ کووڈ-19 کمیونٹی تفتیش

کمیونٹی تفتیش مکمل کرنے میں برامپٹن ٹرانزٹ، پبل پبلک ہیلتھ کے ساتھ قریبی رابطے میں کام کر رہا ہے۔

ملازمین اور عوام کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے پبل پبلک ہیلتھ کی رہنماء ہدایات کی روشنی میں، برامپٹن ٹرانزٹ کے آپریٹرز کے لیے ان کی جائے کار پر ہی ٹیسٹنگ کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے اور میڈیکل ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ کیونکہ بعض صورتوں میں انسولیشن کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، لہذا برامپٹن ٹرانزٹ سروس کا درجہ متاثر رہ سکتا ہے۔ ہم اس وقت کے دوران مسافروں سے صبر کی التماس کرتے ہیں۔

پبل پبلک ہیلتھ کی ہدایات کے مطابق ٹیسٹنگ کا عمل انتہائی محتاط طریقے سے سر انجام دیا جانا چاہیے۔ موجودہ طور پر، اضافی اقدامات کی تجویز کردہ سفارشات کے ساتھ، آپریٹرز، عوام اور ٹرانزٹ استعمال کنندگان کے لیے کمیونٹی میں پہلے سے جاری پھیلاؤ کی وجہ سے جو خطرہ موجود ہے، وہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ کمیونٹی میں پھیلاؤ کی وجہ سے ٹرانزٹ کے تمام استعمال کنندگان کے لیے اہم ہے کہ وہ پبل پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر سختی سے عمل درآمد جاری رکھیں۔ اگر آپ میں علامات موجود ہوں یا آپ کووڈ-19 کے کسی متاثرہ شخص کے بہت قریب رہ چکے ہوں، تو براہ کرم ٹرانزٹ کا استعمال نہ کریں۔ ٹرانزٹ میں سفر کرنے کے دوران براہ کرم ممکنہ حد تک جسمانی فاصلہ بندی کا خیال رکھیں، سخت فٹنگ کا ماسک پہنیں اور طبی ایمرجینسی کے علاوہ (بشمول کھانے پینے کے لیے بھی) ماسک کو منہ سے نیچے نہ کریں۔

کمیونٹی تفتیش کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم پبل پبلک ہیلتھ سے رابطہ کریں۔

برامپٹن ٹرانزٹ پر کووڈ-19 کے لیے حفاظتی اقدامات

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹرز کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

پبل پبلک ہیلتھ کی ہدایات کی روشنی میں، مسافروں کو درج ذیل یاددہانیاں کرائی جاتی ہیں:

- ٹرینلز اور بسوں پر چہرے ڈھانپنے کی اشیاء یا نان میڈیکل ماسک پہننا لازمی ہیں - استثنائی بشمول بیماریوں کی وجہ سے نہ پہن سکتے پر بھی استثنائی حاصل ہوں گے۔ چہرے ڈھانپنے کی اشیاء کو آپ کی ناک، منہ اور ٹھوڑی کو ہر وقت ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ طبی ایمرجینسی کے علاوہ (بشمول کھانے پینے کے لیے بھی) ماسک کو منہ سے اتارنے سے گریز کریں۔
- بیشک اگر آپ نے ماسک بھی پہن رکھا ہو، ٹرینلز اور بس اسٹاپس پر جسمانی فاصلہ بندی کا خیال رکھیں۔



- سفر کے لیے اپنی ذاتی جراثیم کش اشیاء مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا تولیے وغیرہ اپنے ساتھ لائیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔
 - اگر آپ بیمار ہیں، تو براہ کرم ٹرانزٹ پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ اپنے قریب ترین کووڈ-19 اسپسمنٹ سائٹ پر ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔
- اپنے ملازمین اور کمیونٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے، برامپٹن ٹرانزٹ کووڈ-19 سے متاثر ہونے کے امکانات کو محدود کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانا جاری رکھے گا۔

پس منظر

- [سٹیلز ویسٹ کوریڈور کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ سروس کو مورخہ 10 مارچ سے معطل کیا جا رہا ہے](#)
- [کووڈ-19 کے ردعمل میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں مورخہ 9 مارچ سے مؤثر ہونے والی تبدیلیاں](#)

-30-

سٹی آف برامپٹن میڈیا کنٹیکٹ

گروندر سنگھ
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
سٹریٹیجک کمیونیکیشنز
سٹی آف برامپٹن

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

ریجن آف پیل میڈیا کنٹیکٹ

ایشلے ہاکنز
کمیونیکیشنز اسپیشلسٹ – پبلک ہیلتھ
ریجن آف پیل

ashleigh.hawkins@peelregion.ca | 416.818.4421